



## JUZ14 - PART 1

### SURAH HIJR 1-99

#### ROOT WORDS

Translation	ROOT WORD	WORD	AYAT
چاہیں گے	و د د	يُودُ	2
چھوڑ دیجیے انہیں	و ذ ر	ذَرَّهُمْ	3
اور غافل رکھے انہیں	ل ہ و	وَيُلْهِمُهُمُ	
امید	أ م ل	الْأَمَلُ	
البتہ مجنون ہے	ج ن ن	لَمَجْنُونٍ	6
ہم داخل کرتے ہیں اس کو	س ل ك	نَسَلْنَاهُ	12
تو شروع ہو جائیں	ظ ل ل	فَظَلُّوا	14
مد ہوش کر دی گئی ہیں	س ك ر	سُكِرَتْ	15
چرا لیا	س ر ق	أَسْتَرْقَ	18
بار آور	ل ق ح	لُوقِحَ	22
پس پلایا ہم نے تمہیں وہ	س ق ي	فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ	
کھنکٹی مٹی	ص ل ص ل	صَالِصَالٍ	26
بد بودار	س ن ن	مَسْنُونٍ	
لپٹ	س م م	السَّمُومِ	
درست کردوں میں اسے	س و ي	سَوَّيْتُهُ	29
کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے	ب ع ث	يُبْعَثُونَ	36
بے راہ کیا تو نے مجھے	غ و ي	أَغْوَيْتَنِي	39
تقسیم شدہ	ق س م	مَقْسُومٍ	44
چشمے	ع ي ن	عِيُونَ	45
تختوں پر	س ر ر	سُرُرٍ	47
خوف زدہ ہیں	و ج ل	وَجِلُونَ	52
مایوس ہو سکتا ہے	ق ن ط	يَقْنَطُ	56
البتہ نجات دینے والے ہیں	ن ج و	لَمُنْجُوهُمْ	59

پیچھے رہنے والوں	غ ب ر	الْغَبِرِينَ	60
ایک حصے میں	ق ط ع	بِقِطْعٍ	65
پیچھے مڑ کر دیکھے	ل ف ت	يَلْتَفٍ	
اور چلتے جاؤ	م ض ی	وَأَمْضُوا	
مہمان ہیں میرے	ض ی ف	ضَيْفِي	68
تم رسوا کرو مجھے	ف ض ح	تَفْضُحُونَ	
پکی ہوئی مٹی کے	س ج ل	سَجِيلٍ	74
گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے	و س م	لِّالْمُنَوِّسِينَ	75
ایکہ / جنگل والے	أ ی ک	الْأَيْكَةِ	78
وہ تراشتے	ن ح ت	يَنْحِتُونَ	82
چنگھاڑنے	ص ی ح	الصَّيْحَةِ	83
جب کہ وہ صبح کرنے والے تھے	ص ب ح	مُصْبِحِينَ	
پس در گزر کیجیے	ص ف ح	فَأَصْفَحْ	85
دہرائی جانے والی (آیات)	ث ن ی	الْمَثَانِي	87
اور جھکا لیجئے	خ ف ض	وَأَخْفِضْ	88
بازو اپنا	ج ن ح	جَنَاحَكَ	
تکڑے تکڑے	ع ض و	عَضِينَ	91
پس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے	ص د ع	فَأُصَدِّعْ	94

### SURAH AN-NAHL 1-48

گرمی کا سامان ہے	د ف أ	دِفْءٌ	5
تم شام کو چرا کر لاتے ہو	ر و ح	تُرِيحُونَ	6
تاکہ تم سواری کرو ان پر	ر ک ب	لِتَرْكَبُوهَا	7
سیدھا	ق ص د	قَصْدٌ	9
ٹیڑھے ہیں	ج و ر	جَائِرٌ	
تم چراتے ہو	س و م	تُسِيمُونَ	10
رنگ اس کے	ل و ن	الْوَانَهُ	13

تازہ	ط ر ی / و	طَرِيًّا	14
زیور	ح ل ی	حَلِيَّة	
کہ پھاڑنے والی ہیں	م خ ر	مَوَاحِرَ	
اور اس نے ڈال دیے	ل ق ی	وَالْقَى	15
وہ ڈھلک جائے	م ی د	تَمِيدًا	
اور علامات (رکھ دیں)	ع ل م	وَعَلِمَتْ	16
تم شمار کر سکتے انہیں	ح ص ی	تُحْصَوْنَهَا	18
بوجھ اپنے	و ز ر	أَوْزَارَهُمْ	25
وہ بوجھ ڈال رہے ہیں	و ز ر	يَزْرُونَ	
ان کی عمارت کو	ب ن ی	بُنْيَانَهُمْ	26
بنیادوں	ق ع د	الْقَوَاعِدِ	
تو گر پڑی	خ ر ر	فَخَرَّ	
چھت	س ق ف	السَّقْفُ	
وہ پاک ہوتے ہیں	ط ی ب	طَيِّبِينَ	32
اور گھیر لیا	ح ی ق	حَاقَ	34
آپ حریص ہیں	ح ر ص	تَحْرِيصًا	37
ارادہ کرتے تم اس کا	ر و د	أَرَادْتَهُ	40
اور صحیفوں کے	ز ب ر	وَالزُّبُرِ	44
دھنسا دے	خ س ف	يَخْسِفًا	45
ان کے چل	ق ل ب	تَقْلِبُهُمْ	46
نے پھرنے میں	خ و ف	تَخَوُّفٍ	47
چھکتے ہیں	ف ی أ	يَتَفَيَّأًا	48
دائیں سے	ی م ن	عَنِ الْيَمِينِ	
اور بائیں سے	ش م ل	وَالشَّمَائِلِ	
عاجزی کرنے والے ہیں	د خ ر	دَاخِرُونَ	